

Time: 10 Minutes	Paper Math 6 (T-1)	Total Marks: 10
2nd Month, 2nd Week, 2nd Day	Review Exercise 3 Q # (4, 5, 6, 7, 8)	

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. The sum of two integers is -215 . If one of them is -135 , then find the other. $(1 \times 2 = 2)$

دو صحیح اعداد کا مجموعہ -215 ہے۔ اگر ان میں سے ایک -135 ہو تو دوسرا صحیح عدد معلوم کریں۔

Q.2. Find an integer that divides -150 to give -3 . $(1 \times 2 = 2)$

ایسا صحیح عدد معلوم کریں جو -150 کو تقسیم کرنے سے -3 حاصل ہو۔

Q.3. The difference of two integers is 185 . If one of them is 400 , then find the other integer. $(1 \times 2 = 2)$

دو صحیح اعداد کا فرق 185 ہے۔ اگر ان میں سے ایک 400 ہو تو دوسرا صحیح عدد معلوم کریں۔

Q.4. The product of two integers is -180 . If one of them is 10 , then find the other. $(1 \times 2 = 2)$

دو صحیح اعداد کا حاصل ضرب -180 ہے۔ اگر ان میں سے ایک 10 ہو تو دوسرا صحیح عدد معلوم کریں۔

Q.5. The sum of two integers is -105 . If one of them is 95 , then find the other. $(1 \times 2 = 2)$

دو صحیح اعداد کا مجموعہ -105 ہے۔ اگر ان میں سے ایک 95 ہو تو دوسرا صحیح عدد معلوم کریں۔

Time: 10 Minutes	Paper Math 6 (T-1)	Total Marks: 10
2nd Month, 2nd Week, 2nd Day	Review Exercise 3 Q # (4, 5, 6, 7, 8)	

☆ Answer the following questions: درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔

Q.1. The sum of two integers is -215 . If one of them is -135 , then find the other. $(1 \times 2 = 2)$

دو صحیح اعداد کا مجموعہ -215 ہے۔ اگر ان میں سے ایک -135 ہو تو دوسرا صحیح عدد معلوم کریں۔

Q.2. Find an integer that divides -150 to give -3 . $(1 \times 2 = 2)$

ایسا صحیح عدد معلوم کریں جو -150 کو تقسیم کرنے سے -3 حاصل ہو۔

Q.3. The difference of two integers is 185 . If one of them is 400 , then find the other integer. $(1 \times 2 = 2)$

دو صحیح اعداد کا فرق 185 ہے۔ اگر ان میں سے ایک 400 ہو تو دوسرا صحیح عدد معلوم کریں۔

Q.4. The product of two integers is -180 . If one of them is 10 , then find the other. $(1 \times 2 = 2)$

دو صحیح اعداد کا حاصل ضرب -180 ہے۔ اگر ان میں سے ایک 10 ہو تو دوسرا صحیح عدد معلوم کریں۔

Q.5. The sum of two integers is -105 . If one of them is 95 , then find the other. $(1 \times 2 = 2)$

دو صحیح اعداد کا مجموعہ -105 ہے۔ اگر ان میں سے ایک 95 ہو تو دوسرا صحیح عدد معلوم کریں۔